

شہر میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے آپ کی کلید

آپ کی ہجرت کی کیفیت یا ادائیگی کی
صلاحیت سے قطع نظر، صحت کی دیکھ
بھال کے اپنے حق کو وقار اور عزت سے
کھولیں۔



NYC Health +

Hospitals کے ٹھہور ٹھکانوں

پر پورے شہر میں دستیاب!

آج ہی NYC Care کے رکن بن جائیں!

1-646-NYC-CARE

1-646-692-2273

nyccare.nyc

خلوت اور رازداری کی ضمانت دی جاتی ہے۔

'پبلک چارج' قانون کے تحت NYC Care میں اندراج

سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

NYC
CARE Your Key
to the City's
Health Care

نیویارک سٹی (New York City) میں ہم صحت کی دیکھ بھال کو انسانی حق تصور کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، ہمارے شہر میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو صحت کی ایک ایسی معیاری دیکھ بھال فراہم کی جائے جو آپ کی مالی استطاعت کے مطابق ہو۔ NYC Care صحت کی دیکھ بھال تک رسائی فراہم کرنے کا پروگرام ہے، جو نیو یارک کے ان مکینوں کو کم لاگت یا مفت خدمات کی ضمانت دیتا ہے، جو صحت کے بیمے کی اہلیت نہیں رکھتے یا اسے مالی لحاظ سے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ NYC Health + Hospitals کی تمام پانچوں قصبوں (boroughs) میں اب یہ پروگرام دستیاب ہے۔

NYC Care کی بدولت آپ:

- + اپنی کمیونٹی میں NYC Health + Hospitals میں مریضوں کی دیکھ بھال کے ٹھور ٹھکانوں پر بنیادی اور بچاؤ کی صحت کی خدمات تک رسائی کے لیے رکنیت کا کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔
- + اپنے بنیادی دیکھ بھال فراہم کنندہ کے ساتھ دو ہفتوں کے اندر اندر پہلی ملاقات کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں، جو آپ کو بیمار ہونے سے بچاؤ کرنے میں مدد فراہم کرے گا اور آپ کے صحت مند رہنے کے لیے درکار دیگر خدمات کے ساتھ آپ کو جوڑے گا۔
- + آپ کو جب بھی مدد کی ضرورت ہو ہمارے 24/7 دستیاب کال سینٹر پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔
- + نسخہ پر تجویز کردہ ادویات تک کم قیمت میں 24/7 رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
- + بنیادی دیکھ بھال فراہم کرنے والی مکمل ٹیم کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، جن میں نرسیں، ذہنی صحت کے پیشہ ورانہ ماہرین، طبی معاونین، سماجی کارکن، فارماسسٹ اور غذائی ماہرین شامل ہیں۔
- + صحت کی معیاری دیکھ بھال کو اپنی مالی استطاعت کے اندر لا سکتے ہیں۔ شمولیت کے لیے کوئی خرچ یا ماہانہ فیس نہیں ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے حصول کی لاگت آپ کی مالی استطاعت کے مطابق ہے، یہ آپ کی آمدنی کی بنیاد پر ہے۔

مزید

معلومات اور اندراج
کے لیے کال کریں

1-646-NYC-CARE

1-646-692-2273

خلوت اور رازداری کی ضمانت دی جاتی ہے۔
پبلک چارج قانون کے تحت NYC
Care میں اندراج سے کوئی
خطرہ نہیں ہے۔



رابطے میں رہیں۔ ہمیں فالو کریں۔